



## سوال

(07) حاجی کی شفاعت کے بارے میں حدیث

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا یہ ثابت ہے کہ حاجی چار سو آدمیوں کی شفاعت کرے گا؟ - (سلام طالب علم)۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

میں نے یہ حدیث کنز العمال: (5/14) رقم: (1184) میں دیکھی تھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے حاجی اپنے گھرانے کے چار سو آدمیوں کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ (بزار)

لیکن ہم نے ابھی تک اس کی سند نہیں دیکھی پھر ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ حدیث المنذری میں ترغیب: (12) میں ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی کا نام نہیں لیا گیا یعنی مجہول ہے۔

پھر میں نے یہ حدیث کشف الاستار: (39/2) رقم: (1154)۔ اور الجمع: (211/3) میں دیکھی اس کی سند اس طرح ہے:

«حدیثنا عمرو بن علی، ثنا ابو عاصم، ثنا عبد اللہ بن عیسیٰ رجل من اہل الیمین عن سلمۃ بن وہب، عن رجل عن ابی موسیٰ مرفوعاً، فذکرہ»

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 48

محدث فتویٰ